

سینئر مینجمنٹ کورس (SMC) کے 46 رکنی وفد نے سی سی پی او کا دورہ کیا۔

کراچی یکم ستمبر 2022ء:-

سینئر مینجمنٹ کورس کے 31 ویں بیچ کے زیر تربیت 46 رکنی وفد نے سینٹرل پولیس آفس کراچی کا خصوصی دورہ کیا اور ڈی جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ (NIM) ڈاکٹر لبنی ایوب کی سربراہی میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے ملاقات کی اور امن وامان کی صورتحال، عوام دوست پولیسنگ اسکے اثرات، انسداد دہشت گردی اقدامات سمیت پولیس کی آپریشنل و انویسٹی گیشن ذمہ داریوں کو مزید بہتر اور موثر بنانے جیسے امور پر سیر حاصل معلومات اور تجاویز کو شیئر کیا گیا۔

قبل ازیں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز سندھ نے استقبالیہ پیش کیا اور سندھ پولیس کے مختلف شعبہ جات/یونٹس کے جملہ امور و اقدامات کی تفصیلات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔

آئی جی سندھ نے وفد کو بتایا کہ عوام دوست پولیسنگ کے لیئے تھانہ جات کی سطح پر اقدامات کیئے جارہے ہیں جن میں سی سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب سرفہرست ہے ان کیمروں کی بدولت تھانہ جات میں آنیوالے سائلین سے پولیس کے برتاؤ/سلوک اور انکی شکایات کے اندراج جیسے معاملات پر کڑی نگاہ و نگرانی ممکن ہوسکے گی۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کے ہر ممکن سدباب کے لیئے حکومت سندھ کے تحت سیف سٹی پروجیکٹ اور اسکا آغاز بھی زیر غور ہے۔ علاوہ ازیں اہم پوسٹس پر اچھی شہرت کے حامل پولیس افسران کی تعیناتیوں کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔

آئی جی سندھ نے وفد کے شرکاء کو مزید بتایا کہ پولیس کے آپریشنل اور انویسٹی گیشن فرائض کو مزید بہتر اور موثر بنانے کے لیئے تمام تر اقدامات کیئے جارہے ہیں جن میں ٹریننگ نصاب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، پولیس افسران اور جوانوں کے لیئے مختلف/اسپیشل کورسز کو متعارف کرانا، اسکول آف فائنانس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے تربیت کی فراہمی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ملاقات کے اختتام پر سندھ پولیس اور نمز (NIMS) کے مابین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ کیا گیا۔ بعد ازاں ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ نے سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے ملاقات اور اسکے تحت معلومات و تجربات کی شیئرنگ پر سندھ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔

اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز سندھ سمیت سی سی پی او میں تعینات دیگر تمام سینئر افسران بھی موجود تھے۔